

## ایڈوانس پولنگ کا عمل کل سے شروع ہوگا۔

6 اکتوبر 2022

Mississauga: الیکشن کے دن لائنوں کو چھوڑیں – پیشگی پولز کل، 7 اکتوبر کو کھلیں گے!

ایڈوانس پولنگ کے مقامات 7 سے 9 اکتوبر کو Mississauga سٹی ہال میں اور اسی طرح 13 تا 16 اکتوبر کو پورے شہر میں موجود ووٹنگ کے تمام مقامات پر صبح 10 تا شام 4 بجے تک کھلے رہیں گے۔

اہل ووٹر پیشگی پولنگ کے دوران پولنگ کے کسی بھی مقام پر جا کر اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ہر مقام پر ووٹنگ کے انتظار کے اوقات [Mississauga ووٹس](https://www.mississauga.ca/voting) کی ویب سائٹ پر آن لائن طور پر دستیاب ہوں گے، جس سے ووٹنگ کے مقام کا انتخاب کرنا آپ کے لیے اور بھی آسان ہو جائے گا۔

لیجسلیٹو سروسز منیجر، ڈیانا روسانوف نے بتایا ہے کہ "ایڈوانس پولز کی سہولت سے ووٹرز اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے کسی بھی ایسے وقت اور مقام کا انتخاب کر سکتے ہیں جو ان کے ووٹ ڈالنے کے لیے آسان ہو۔" انہوں نے مزید کہا ہے کہ "وہ ہمارے آن لائن ٹول کا استعمال کر کے کم سے کم انتظار کے ساتھ اپنے قریب ترین موجود پولنگ کا مقام تلاش کر سکتے ہیں۔"

ووٹنگ کے عمل کو تیز کرنے کے لیے، ووٹرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ووٹر معلومات کی تصدیق کریں یا [آن لائن](https://www.mississauga.ca/voting) ووٹ دینے کے لیے اندراج کریں یا صحیح معلومات کے ساتھ اپنا ووٹر نوٹیفکیشن کارڈ اپنے ساتھ لائیں۔ حکومت کی جانب سے جاری کی جانے والی قابل قبول تصویر کی حامل دستاویز کی ضرورت بھی ہو گی۔

2022 میں الیکشن کا دن 24 اکتوبر کو آتا ہے اور اسی دن دیوالی بھی ہے۔ اونٹاریو الیکشنز ایکٹ کے مطابق میونسپل انتخابات اکتوبر کے چوتھے پیر کے دن منعقد ہونے چاہیں، لیکن پیشگی پولنگ دیوالی کی تقریبات میں کوئی رکاوٹ ڈالے بغیر ووٹ ڈالنے کے اضافی مواقع فراہم کرتی ہے۔

روسانوف نے کہا ہے کہ "اگر آپ دیوالی منا رہے ہیں، تو ہم آپ کو پیشگی انتخابات سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتے ہیں۔" ان کا مزید کہنا تھا کہ "اپنا ووٹ قبل از وقت ڈال دیں تاکہ آپ 24 کا دن اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیاں مناتے ہوئے گزار سکیں۔"

دلچسپی رکھنے والے ووٹرز [MississaugaVotes.ca](https://www.mississauga.ca/voting) پر پیشگی پولنگ کی تاریخیں، اوقات اور مقامات آن لائن تلاش کر سکتے ہیں۔